

چھ ماہ کے اخراجات
 کے لئے گندم دے دیں۔ مگر چونکہ نومبر تک غلہ سستا رہتا ہے اور نومبر کے بعد گراں ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف غلہ اتنا زیادہ جمع نہیں ہوتا۔ جو چھ ماہ کے اخراجات کے لئے لوگوں میں تقسیم کیا جاسکے۔ اس لئے اس وقت تک میرا فیصلہ یہی ہے۔ کہ سال کے آخری پانچ مہینوں کے لئے لوگوں کو امداد دی جائے۔ مگر ایک حصہ جماعت کا ایسا بھی ہے۔ جو صدر انجمن احمدیہ کے کارکنوں میں شامل نہیں۔ اور وہ ایسا غریب بھی نہیں۔ کہ گندم خرید نہ سکے۔ مثلاً پیشتر میں۔ ان کی پنشن آتی ہے۔ اور وہ اس پر عملگ سے گزارہ کرتے ہیں۔ یا تاجر ہیں وہ تجارت کے ذریعہ روپیہ کھاتے ہیں یا پیشہ در ہیں۔ جو اپنے پیشہ اور صنعت کے ذریعہ اپنے گزارہ کا معقول انتظام رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے طور پر گندم خرید سکتے ہیں۔ مگر گزشتہ سال ان میں سے بھی بعض نے غلہ نہیں خریدا اور اس وجہ سے انہیں مشکلات برداشت کرنی پڑیں۔ اسی لئے مجھے دوبارہ جماعتوں میں تحریک کر کے غلہ جمع کرنا پڑا۔ اور

خریدا۔ انہیں گزشتہ سال کا پریشانی اٹھانے پڑی تھی۔ کیونکہ قدرتی طور پر انسان یعنی ذوق یہ خیال کر لیتا ہے۔ کہ یہ مصیبت چند دن کی ہے۔ پھر فراخی کے ایام آجائیں گے۔ اور اس دھوکے میں وہ اپنے لئے مناسب انتظام نہیں کرتا۔ مگر جو حصہ ایسا تھا۔ جس نے میری تحریک کے تحت غلہ خریدا۔ اس میں بھی اس قسم کی بد انتظامی پائی جاتی تھی۔ جو زرخ کو بڑھانے کا موجب بن گئی۔ اور اس

بد انتظامی اور گھبرائے
 کی وجہ سے ہی قادیان کے ارد گرد گندم کے ریٹ عام حالات کی نسبت زیادہ ہو گئے۔ قادیان کے رہنے والوں کو ارد گرد کے گاؤں میں لوگ مولوی کہا کرتے ہیں۔ میرے پاس ان دنوں کئی لوگوں نے بیان کیا۔ کہ مولویوں

ایک دوست نے نکل کا ایک واقعہ بتایا۔ وہاں کوئی احمدی ہیں انہوں نے انہیں بتایا کہ یہاں ایک دفعہ لکڑیوں کا ایک گڈا آیا جو میں نے خریدا۔ مگر بعد میں مجھے خیال آیا۔ کہ یہ سودا مہنگا ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے تھوڑے سے نتائج پڑھی لکڑیوں کا گڈا ایک اور شخص کے پاس بیچ دیا۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ چند گھنٹوں کے بعد ہی قادیان کے دو آدمی وہاں گئے۔ اور انہوں نے وہی گڈا اس شخص سے ڈیڑھ قیمت پر خرید لیا۔ اور ان میں سے ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔ الحمد للہ ہمیں بڑی سستی لکڑیاں مل گئی ہیں۔ تو اس قسم کی حرکات سے بھاؤ نادرہ طور پر بڑھ جایا کرتا ہے۔ اور چونکہ

رام نامہ کے پاس فروخت کریں یا شوہر کے پاس۔ پس میری تجویز یہ ہے۔ کہ جس قدر ضلع گورداسپور کی احمدی جماعتیں ہیں۔ وہ اپنا غلہ صرف احمدیوں کے پاس فروخت کریں۔ اور کسی کے ہاتھ فروخت نہ کریں۔ اس غرض کے لئے صدر انجمن احمدیہ کو چاہئے۔ کہ تمام جماعتوں سے یہ پوچھ لیا جائے۔ کہ اپنی ضروریات کو پورا کر لینے کے بعد ان کے پاس کس قدر غلہ بچے گا۔ پھر جس قدر غلہ باقی ہے۔ اسے بجائے منڈیوں میں فروخت کرنے کے یا انفرادی رنگ میں ذید کر کے پاس بیچنے کے وہ

جماعت کے پاس فروخت کریں
 اس طرح وہ بھاگتا پیدا نہیں ہوگی۔ جو گزشتہ سال پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے گورداسپور کے ضلع میں تین ہزار سے چالیس ہزار احمدی ہیں۔ اگر ہم چار آدمیوں کا ایک قادیان تصور کر لیں۔ تو دس ہزار مرد کمانے والے بنتے ہیں ان دن ہزار میں سے اگر ہم ایسے لوگ نکال دیں۔ جو

Digitized by Khilafat Library Rabwah

سیدنا حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ کا ارشاد

حضور فرماتے ہیں۔

” اس سال بھی میں جماعت کے دوستوں کو تحریک کرتا ہوں۔ کہ جتنا غلہ وہ اپنے لئے جمع کریں۔ اس کا چالیسواں حصہ قادیان کے غریبوں کے لئے دے دیں۔“
 اس تحریک کے مطابق احباب اپنے وعدے فوراً دفتر ہذا میں بھجوا کر ثواب حاصل کریں۔
 خالصاً محمد عبداللہ اعجاز پرائیویٹ سکریٹری

ایک ہزار اس غلہ جمع کر کے انہیں سستے زرخ پر دے دیا یہ سستے زرخ دیئے نہیں تھے جیسے شروع میں گندم کا زرخ تھا۔ مگر مقابلہ پھر بھی ارزاں تھا۔ اگر میری تحریک پر وہ شروع میں ہی گندم خرید لیتے۔ تو پونے چار پانچ یا پانچ روپے چھ آنے پر انہیں گندم مل جاتی۔ مگر چونکہ انہوں نے یہ وقت ضائع کر دیا۔ اس لئے ان کے لئے بعد میں غلہ جمع کرنا پڑا۔ جو کسی کو ساڑھے پانچ کسی کو چھ کسی کو سات اور کسی آٹھ روپیہ پر دیا گیا۔ کیونکہ جس زرخ پر غلہ مل گیا۔ اسی زرخ پر ہم لوگوں کو دیتے چلے گئے یہ بھاؤ بے شک شروع کے زرخ کے مقابلہ میں گراں تھا۔ مگر وقتی زرخ کو مد نظر رکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ صرف جماعتی جدوجہد اور نظام کی وجہ سے انہیں مقابلہ سستل گیا۔ بہر حال جن لوگوں نے میری متواتر ہدایات کے باوجود غلہ

گزشتہ سال کا تلخ تجربہ
 ہمارے سامنے ہے۔ اس لئے آئندہ اس بد انتظامی کو روک سکتے ہیں اور غلہ کی کافی فراہمی کے لئے کچھ تجاویز سوچی ہیں۔ جن کا آج میں اظہار کرتا ہوں چونکہ ان باتوں کا

باہر کی جماعتوں کے
 عموماً اور ضلع گورداسپور کی جماعتوں سے خصوصاً تعلق ہے۔ اس لئے میں ان تجاویز کو خطبہ جمعہ میں بیان کرتا ہوں۔
 میری ایک تجویز تو یہ ہے۔ کہ قادیان اور اس کے ارد گرد آٹھ دس میل کے علاقہ کے اندر راند رہنے والے احمدی زمیندار اپنا غلہ صرف احمدیوں کے پاس فروخت کریں۔ اور کسی شخص کے پاس فروخت نہ کریں۔ انہوں نے تو بہر حال اپنا غلہ فروخت کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں۔ کہ وہ

ہیں۔ یا ملازم ہیں۔ یا زمینداری نہیں کرتے اور ہم سمجھ لیں۔ کہ دو حصے وہ لوگ ہیں۔ تو پہلے حصہ زمینداروں کا رہ جاتا ہے اور میرے نزدیک یہ اندازہ غلط نہیں۔ اس سے زیادہ تو زمیندار ہو سکتے ہیں۔ مگر کم نہیں۔ اور پہلے کے لحاظ سے میرے نزدیک تین ہزار کے قریب احمدیوں کا کل ضلع گورداسپور میں پلتا ہے۔ اگر ہر شخص کی زمین کی اوسط زمین ایک فرسخ کی جائے۔ تو اس کے معنی یہ بنتے ہیں۔ کہ ساڑھے ضلع گورداسپور میں ہماری جماعت افراد ہزار ایک زمین کاشت کرتے ہیں۔ اور چونکہ ساڑھے گاؤں

قادیان کے قریب
 نہیں بلکہ دور دور بھی ہیں۔ اس لئے اگر چار ہزار ایکڑ میں اس میں سے نکال دی جائے اور چار من لے لیں۔ کہ مناسب سے غلہ کی پیداوار کا اندازہ لگایا جائے۔ تو

بیس ہزار من غلہ

بنتا ہے۔ یہ چار من فی ایکڑ کا اندازہ اوسطاً لگایا گیا ہے۔ کیونکہ کسی کاتین من غلہ پیدا ہوتا ہے۔ کسی کا چار من۔ کسی کا پانچ من کسی کا چھ من۔ کسی کا سات اور کسی کا آٹھ من۔ بہر حال بیس ہزار من غلہ ایسے احمدیوں کا بنتا ہے۔ جو اپنی ضرورت سے زائد غلہ آسانی کے ساتھ قادیان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر دس ہزار من غلہ وہ اپنی ضروریات کے لئے رکھ لیں۔ تو

دس ہزار من غلہ

ایسا رہ جاتا ہے۔ جسے وہ باہر منڈی میں فروخت کیا کرتے ہیں۔ مگر اس دفعہ میری طرف سے یہ ہدایت ہے۔ کہ بجائے منڈی میں اپنا غلہ فروخت کرنے کے وہ جماعت کے پاس غلہ فروخت کریں۔ منڈی کی قیمت روزاً معلوم کر لیا کریں۔ اور منڈی کا جو بھی بھاد ہو۔ اس پر وہ

جماعتی انتظام کے ماتحت

قادیان میں اپنا غلہ لاکر فروخت کر دیں۔ اس غرض کے لئے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ جس قدر غلہ آئیگا اس میں سے سوائے اس غلہ کے جو گھر کی ضروریات کے لئے رکھ لیا جائے گا۔ اور سوائے اس غلہ کے جس کا چندہ کے طور پر دینے کا میں پہلے اعلان کر چکا ہوں باقی سب غلہ میں اس کمیٹی کے سپرد کر دوں گا۔ جو اس کام کے لئے مقرر ہوگی۔ وہ منڈی کی قیمت معلوم کر کے مجھے دے دے اور غلہ اپنے پاس رکھ لے۔

میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس طریق کو اختیار کرنے میں

احمدی زمیندار کسی قسم کا خرچ سمجھیں یا اس میں کسی قسم کی تکلیف محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے۔ کہ اس میں کسی تکلیف کا خیال تک نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے بہر حال اپنا غلہ پختہ اور جب غلہ پختہ نہ ہو تو انہیں اس میں کیا فائدہ ہے۔ کہ وہ کسی غیر کے پاس فروخت کریں۔ وہی غلہ وہ احمدیوں نے پاس فروخت کر دیں۔ اور منڈی کی قیمت لیں اور یہاں کے احمدیوں نے بھی جب غلہ خریدنا ہے۔ تو انہیں اس میں کیا تکلیف ہے کہ وہ کسی غیر سے نہ خریدیں۔ بلکہ احمدی زمینداروں سے ہی خریدیں۔

پس ایک تو یہ تجویز ہے جس سے میں سمجھتا ہوں۔ کہ دس بارہ ہزار من غلہ بتیر کسی گھنٹہ اور تکلیف کے اٹھا سکتا ہے گا۔ اب موجود ہیں۔ اور انہوں نے بہر حال اپنے لئے گندم خریدنی ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ احمدی زمینداروں سے نہ خریدیں۔ دوسری طرف احمدی زمیندار ہیں۔ انہوں نے بہر حال گندم فروخت کرنی ہے۔ پس کوئی وجہ نہیں۔ کہ وہ احمدیوں کے پاس فروخت نہ کریں۔ اس کے لئے میں ایک کمیٹی تجویز کر دینگا مگر میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں۔ کہ اس غرض کے لئے جو کمیٹی بنائی جائے گی اسے یہ حق حاصل نہ ہوگا۔ کہ وہ نفع حاصل کرے۔ اس کا کام صرف یہ ہوگا۔ کہ وہ غلہ فراہم کر کے جو

لاگت پور لوگوں کو غلہ

دیا۔ اور چونکہ بہت سے گاہک ہوں گے اس لئے کمیٹی کو یہ امر بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو پہلے غلہ آئے۔ وہ ان لوگوں میں فروخت کیا جائے۔ جنہوں نے گندم کے لئے پہلے روپیہ جمع کر لیا ہو۔ اور جو بعد میں غلہ آئے۔ وہ اسی ترتیب سے بعد کے گاہکوں کو دیا جائے۔ اس کے لئے ایک طرف تو میں نظام جماعت کو ترجیح دلاتا ہوں۔

صدر انجمن احمدیہ چاہیے

کہ وہ امانت میں سے خرچ لے کر چندہ میں ہزار روپیہ اس مقصد کے لئے الگ کر لے۔ تاکہ اس روپیہ کے ذریعہ ارد گرد کے احمدیوں سے ان کی ضرورت سے زائد غلہ خریداجائے۔ جو دولت اس انتظام کے ماتحت غلہ خریدنا چاہتے ہوں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس کمیٹی کے پاس اپنے نام لکھوا دیں۔ ہم کسی کو رد کرتے نہیں۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہو۔ کہ اپنے طور پر وہ زیادہ سستا غلہ خرید سکتا ہے۔ تو وہ اپنے طور پر خرید لے ہم اسے منع نہیں کرتے۔ مگر دوسرے تمام لوگوں کو چاہیے۔ کہ وہ اپنے نام اس کمیٹی کے پاس لکھوا دیں۔ جو ان غلہ آتا جائے گا دوستوں کو ملنا چاہا جائے گا۔ مگر یہ امر یاد رکھنا چاہیے۔ کہ جو لوگ اپنے نام پہلے لکھوائیں گے انہیں مقدم سمجھا جائے گا۔ اور جو بعد میں لکھوائیں گے۔ انہیں لازماً بعد میں غلہ ملے گا۔ اس

تقسیم میں تاریخ اور ترتیب

کو مد نظر رکھا جائے گا۔ جس ترتیب سے لوگوں نے اپنے نام لکھوائے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی روپیہ خزانہ صدر انجمن احمدیہ میں جمع کر لیا ہوگا۔ اسی ترتیب سے انہیں غلہ دیا جائے گا۔ جب تک یہ کمیٹی تجویز نہیں ہوتی۔ اس وقت تک دوستوں کو چاہیے کہ وہ دفتر پرائیویٹ سکرٹری میں اپنے نام لکھوا دیں۔ اور جتنے روپوں کی وہ گندم خریدنا چاہیں۔ اس قدر روپیہ صدر انجمن احمدیہ کے خزانہ میں جمع کرادیں۔

میری دوسری تجویز

یہ ہے۔ کہ علامہ احمدیوں کے جو دوسرے زمیندار ہیں۔ ان سے بھی گندم خریدی جائے۔ اور یہی کمیٹی اس گندم کے خریدنے کا انتظام کرے۔ صدر انجمن احمدیہ کو یہ بھی چاہئے کہ وہ فوراً اپنی ضرورتوں کا اندازہ کرے۔ اسے بھی بہت سی گندم کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً حلیہ سالانہ کے لئے گندم کی ضرورت ہوتی ہے۔ منگرنے کے لئے گندم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بورڈروں کے لئے گندم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس قسم کے تمام اخراجات کا اندازہ لگا کر وہ کمیٹی کے سپرد کر دے۔ اور اسے کہے کہ آتا ہے صدر انجمن احمدیہ اپنی ضرورتوں کے لئے خریدے گی۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ سال بھر کے لئے قادیان میں ہماری جماعت کو

بیس ہزار من غلہ

کی ضرورت ہوتی ہے۔ قادیان کی آبادی اب ہذا تالی کے فضل سے بارہ ہزار کے قریب ہے۔ دس سیر فی شخص کے حساب سے اگر ہم گندم کے خرچ کا اندازہ لگائیں تو ۳۶ ہزار من غلہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عیسائیانہ کے اخراجات اس کے علاوہ ہیں۔ وہاں جو انفرادی طور پر لوگوں کے ہاں آتے رہتے ہیں۔ ان کا خرچ بھی اس میں شامل نہیں۔ مگر جیسا کہ میں گزشتہ خطبہ میں بیان کر چکا ہوں۔ لوگ ہمیشہ غلہ نہیں کھاتے بلکہ کبھی چاول بھی استعمال کر لیا کرتے ہیں۔ پھر کبھی کسی دعوت میں شریک ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک حصہ آبادی کا ایسا بھی ہے جو احمدی نہیں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا اندازہ یہ ہے۔ کہ بیس ہزار من گندم سال بھر کے لئے کافی ہوتی ہے۔ مگر چونکہ اس میں کچھ حصہ زمینداروں

کا ہے۔ جو اپنے غلے کا آپ انتظام کرتا ہے اور وہ دوسروں کی مدد کا محتاج نہیں ہوتا اسی طرح بعض لوگوں کی تاجروں اور زمینداروں سے دوستیاں ہوتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہمیں اس دوستی کی وجہ سے سستا غلہ مل جائے گا۔ پھر بعض لوگوں کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ اور وہ رشتہ داروں کی وجہ سے سستا غلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان وجوہ کی بناء پر میرا اندازہ یہ ہے۔ کہ اگر کمیٹی

چودہ ہزار من غلہ

کا انتظام کرے۔ تو قادیان والوں کی سال بھر کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ کمیٹی کو چاہیے۔ کہ وہ گندم کی فراہمی کے لئے ساہوکاروں کو کمیشن دے دے۔ اور ان کے ذریعہ گندم اکٹھی کرنے کی کوشش کرے تاکہ گزشتہ سال گندم کی فراہمی کے لئے لوگوں میں جو بھرا کر چھٹی ہو۔ اس سال پیدا نہ ہو۔ بعض معمولی خرابیاں ہوتے ہیں۔ مگر ان کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر سچائے اس کے کہ دس بیس آدمی ایک گاہکوں میں گندم خریدنے کے لئے پہنچ جائیں اور گندم جو سات روپیہ پر لک رہی تھی۔ کم از کم ساہوکاروں کو چھوٹے ساہوکاروں کو کہا جائے۔ کہ تم بیس ایک آنہ یا دو آنہ من کمیشن دے دیں گے۔ تم ہم سے روپیہ لیتے جاؤ اور گندم اکٹھی کر کے بیٹے جاؤ۔ تو

ایک آنہ یا دو آنے فی من کمیشن

پر زیادہ خرچ بھی نہیں ہوگا۔ اور گندم بھی آسانی سے جمع ہو جائے گی۔ کیونکہ ساہوکار یہ کام روزانہ کرتے ہیں۔ اور ان کے گھنٹے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ زمیندار بھی جانتے ہیں۔ کہ ان کا روز کا یہ کام ہے۔ پس انہیں کسی ہولناکی کے جانے پر تعجب نہیں ہوتا۔ مگر جب غیر آدمی ان کے پاس گندم خریدنے کے لئے جاتے ہیں تو یکدم تین چار آنے بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ بظاہر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ساہوکار کو ایک یا دو آنے کمیشن کیوں دیں۔ ہم خود گندم لائیں گے۔ مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ خود جائیں گے۔ تو پانچ سات آنے ریٹ بڑھ جائے گا اور انہیں غلہ سستا نہیں ملے گا۔ صرف فرق یہ ہوگا۔ کہ اگر وہ

ساہوکار کی معرفت

غلہ خریدنے تو سستا دے ایک آنہ یا سات روپیہ دو آنے یا سات روپیہ تین آنے پر غلہ مل جائے۔

مگر جب آپ جلتے ہیں تو وہی فلاسفات تو
 پانچ آنہ یا سات روپیہ آٹھ آنہ پرے آتے
 ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کیشن
 نہیں دیا حالانکہ اگر وہ کیشن دیتے تو انہیں
 اتنا نقصان نہ ہوتا۔ قینا کیشن نہ دینے کی
 صورت میں انہیں ہزار تاجر ہمیشہ سستا سودا
 خریدنا جانتا ہے۔ پس اگر اچھا تاجر مل جائے
 تو وہ کیشن کے لاپچ میں تمام کام کر دیتا ہے
 اور کسی قسم کی گھبراہٹ پیدا نہیں ہوتی۔
 پس میری دوسری تجویز یہ ہے کہ قادیان کے
 ارد گرد جو مختلف ساہوکار ہیں۔ کیسی ان
 سے ملکر

گندم کی فراہمی کا انتظام

لا کرے۔ اور انہیں سب کیشن دے دیا
 جائے۔ دنیا میں کہ وڑوں میں غنہ خریدے
 جاتے ہیں مگر کبھی گھبراہٹ پیدا نہیں ہوتی
 ہم نے بیس تیس یا پچاس ہزار من غنہ خریدنا
 ہوتا ہے۔ اور لوگ گھبراہٹ نہیں ہیں۔ حالانکہ
 منڈیوں میں دس دس بیس بیس تیس لاکھ من
 غنہ کے سودے ہوتے ہیں۔ اور لوگوں
 کو پتہ تک نہیں لگتا کہ کتنا بڑا سودا ہر گیارہ
 ہے۔ درحقیقت وہ ساہوکار جن کا سودا
 یہ کام ہوتا ہے۔ ان کے منڈیوں میں آنے
 جاتے اور گندم خریدنے کی وجہ سے کسی کو
 یہ خیال تک نہیں آتا کہ لوگوں کی ضرورت
 بڑھ گئی ہے۔ مگر جب غیر آدمی گندم خریدنے
 کے لئے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ
 دنیا میں کوئی خاص تفسیر پیدا ہو گیا ہے۔ اور وہ
 گندم کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تجاویز ہیں
 جو اس سال گندم کی فراہمی کے لئے میں جماعت
 کے سامنے رکھتا ہوں۔ صدر انجمن احمدیہ کو چاہئے
 کہ وہ

پندرہ بیس ہزار روپیہ

فورا اٹک کر دے۔ کیسی کے ممبروں کے نام میں
 بعد میں تجویز کر دوں گا۔ جب گااہک آنے
 شروع ہو جائیں۔ اور روپیہ بھی وصول ہونے
 لگ جائے۔ تو وہ یہ روپیہ امانت میں دے کر
 کر سکتی ہے۔ سوائے اتنے روپیہ کے جتنے
 روپیہ کی گندم کی خود صدر انجمن احمدیہ کو ضرورت
 ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں صدر انجمن احمدیہ کو
 اپنی ضروریات کے لئے بھی آٹھ دس ہزار روپیہ
 کی گندم ضرورت پڑنی پڑے گی۔ بہر حال روپیہ
 انشاد اللہ جلد ناما شروع ہو جائے گا۔ پھیل

دفعہ میں نے دیکھا ہے۔ جب غلہ کی قلت
 ہو گئی۔ اور ہم نے سات آٹھ روپیہ من
 پر غلہ دینے کا اعلان کیا تو

گیارہ ہزار روپیہ چند دن میں

ی جمع ہو گیا۔ اس میں سے پہلے پچاس فیصدی
 تک لوگوں کو گندم دی گئی۔ پھر ہم بعض لوگوں
 کو ساٹھ اور ستر فیصدی تک بھی گندم دیا
 کر کے دے سکے۔ اور جو روپیہ باقی رہتا
 تھا وہ لوگوں کو واپس کر دیا گیا۔

بیرونی جماعتوں کو توجہ

دلانا ہوں۔ کہ جیسا کہ میں نے پچھلے خط میں
 بھی کہا ہے۔ وہ اپنی ضرورت سے کچھ زائد
 غلہ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ تاکہ اگر قاریان
 والوں کو غلہ کی ضرورت ہو۔ اور گردنواح
 کی جماعتوں سے ضرورت پوری نہ ہو سکے۔
 تو ان سے غلہ منگوا یا جاسکے۔ انہیں بھی اپنا
 غلہ انتظامیہ کمیٹی کے سپرد کرنا پڑے گا۔
 اور اس وقت جو بھی منڈی میں

گندم کی قیمت

ہوگی۔ وہ انہیں دس روپے دی جائے گی۔ اب
 چونکہ گندم کے ریٹ پر گورنمنٹ کی طرف سے
 کوئی کنٹرول نہیں۔ اس لئے یہ دیکھنا چاہئے
 کہ منڈی کا کیا بھاؤ ہو پھر جو بھاؤ منڈی کا
 ہوا۔ اسی پر ان سے گندم خریدی جائے گی۔
 اگر باہر کی جماعتیں اپنی ضرورت سے زائد
 گندم اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اور دو تین
 ہفتہ تک انتظار کریں۔ تو میرے نزدیک

۱۵-۲۰ ہزار من غلہ

بیرونی جماعتوں سے بھی آسانی کے ساتھ جمع
 ہو سکتا ہے۔ بڑی جماعتوں میں سے جو غلہ جمع
 کر سکتی ہیں سیالکوٹ سے سرگودھا سے لاہور
 ہے۔ منٹگری ہے۔ شیخوپورہ ہے۔ امرتسر ہے
 لاہور ہے۔ لاہور میں تو زمیندار کم ہیں۔ یہی
 طرح امرتسر میں بھی زمیندار کم ہیں۔ لیکن
 سیالکوٹ شیخوپورہ رگجرات۔ سرگودھا۔ لاہور
 منٹگری میں جماعتیں کافی ہیں۔ وہ معافی ضروریات
 کا خیال رکھ کر زائد گندم اپنے پاس محفوظ
 رکھیں۔ تاکہ جب قادیان میں گندم کی ضرورت
 ہو تو ان سے منگوائی جاسکے۔
 یہ تو لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے
 لئے ظاہری تدابیر ہیں۔ سب سے بڑی ضرورت
 جو میرے نزدیک ان ایام میں ہے۔ وہ یہ

مشکلات کے ایام میں

ہے۔ کہ ان ہر شخص اپنے رب پر توکل کرے۔ خدا تعالیٰ
 کی طرف سے انسان پر جب بھی ابتلا آتے
 ہیں۔ اس کے ایمان کی آزمائش کے لئے آتے
 ہیں۔ مگر یہ ابتلا کبھی تو ایسی حالت میں آتے
 ہیں۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ میرے ایمان
 کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اور کبھی ایسی حالت
 میں آتے ہیں۔ جب اسے اس بات کا
 احساس تک نہیں ہوتا۔ کہ اس کے ایمان کی
 آزمائش کی جا رہی ہے جب انسان کو علم ہو۔
 کہ میرے ایمان کی

ابتلاؤں کے ذریعہ آزمائش

کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت نیل ہو جاتا۔ اور
 اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورا نہ اترتا بڑا
 خطرناک ہوتا ہے۔ میں نے بتایا ہے۔ کہ
 بعض دفعہ ایک ایک شخص پر ابتلا آتا ہے
 اور اسے یہ پتہ نہیں لگتا۔ کہ خدا تعالیٰ
 کی طرف سے اس کے ایمان کی آزمائش ہو رہی
 ہے۔ مگر بعض دفعہ اجتماعی رنگ میں ابتلا آتا
 ہے۔ اور ہر شخص جانتا ہے۔ کہ یہ ابتلا خدا تعالیٰ
 کی طرف سے ہے۔ اس وقت اگر کوئی شخص
 کوتاہی کر جاتا۔ اور آزمائش میں پورا نہیں اترتا
 تو یہ بہت زیادہ افسوس ناک ہوتا ہے۔ بہلا
 یقین ہے کہ خدا ایک شخص جو اپنے بندوں کو
 رزق مہیا کرتا ہے۔ اگر اس ابتلاء کے نتیجہ
 میں بعض کی تباہی مقدر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
 یہ فیصلہ کر چکا ہے۔ کہ انہوں نے فائدے
 مر جاتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ
 سے بچ نہیں سکتے۔ اور اگر کسی کے لئے معمول
 تکلیف مقدر ہے۔ تو اسے بھی تکلیف پہنچ کر
 رہے گی۔ مگر دونوں صورتوں میں

جماعت کے لئے ثواب حاصل کرنے کا دروازہ

کھلا ہے۔ اس کے لئے بھی ثواب حاصل کرنے
 کا موقع ہے۔ جس کے پاس غذا ہے۔ اور
 اس کے لئے بھی ثواب حاصل کرنے کا موقع
 ہے۔ جس کے پاس کوئی غذا نہیں جس کے
 پاس کوئی غذا نہیں۔ اگر وہ بھوک سے گھبراتا
 نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بدظنی سے کام نہیں لیتا
 اور صبر سے مصیبت کو برداشت کرتا ہے۔ تو وہ
 بھی اللہ تعالیٰ کے ثواب کو حاصل کرتا ہے۔
 اور جس کے پاس غذا تو ہے مگر تنہا ہے۔ لیکن

جیسا کہ قرآن کریم میں مومنوں کے متعلق ہے
 وہ خود بھوکا رہتے۔ اور دوسروں کو کھانا کھاتے
 ہیں۔ اسی طرح وہ یہ پسند نہیں کرتا۔ کہ وہ
 خود تو کھائے۔ لیکن اس کا ہمایہ بھوکا ہے
 اگر اس کے پاس صرف وہ روٹیاں ہیں۔ تو وہ
 ایک روٹی پر خود گزارہ کرتا۔ اور ایک اپنے
 بھوکے ہمایہ کو دے دیتا ہے۔ تو وہ
 بھی ایسا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ جو دوسرے
 دنوں میں ایسے میسر نہیں آسکتا۔

یہی مواقع ایمان کی آزمائش کے

ہوتے ہیں۔ یہی وہ مواقع ہوتے ہیں۔ جب
 اللہ تعالیٰ انسان کے دس دس بیس بیس
 تیس تیس چالیس چالیس سال کے گناہوں
 کو ایک ابتلاء کے ذریعہ معاف کر دیتا ہے
 انسان گناہ کرتا ہے۔ اور کرتا چلا جاتا ہے
 ایک سال نہیں دو سال نہیں ستوا تیس چالیس
 سال تک وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور
 اس کے گناہوں کا خدا تعالیٰ کے پاس

ایک کافی ذخیرہ

ہو جاتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اس پر ایک ابتلا
 وارد کرتا ہے۔ اور فیصلہ کرتا ہے۔ کہ اگر میرا
 بندہ اس ابتلاء میں کامیاب ہو گیا۔ تو میں
 اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ پس

خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا دروازہ

ہوتا ہے۔ مگر اسی موقع پر بہت سے لوگ
 بجائے پاس ہونے کے قیل ہو جاتے ہیں
 تب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے
 ہم نے تو اپنے اس بندے کے دس بیس سال
 کے گناہ معاف کرنے کا ایک راستہ نکالا
 تھا مگر اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا
 اب جاؤ اور اس سزا میں اس کے گناہوں
 کو دگھا کر دو

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

ایک حدیث ہے۔ آپ کے پاس مہمان آتے
 مہمان خانہ آپ کے پاس کوئی تھا نہیں۔ آپ
 تمام مہمان صحابہ میں تقسیم کر دیتے۔ کہ
 وہ انہیں اپنے اپنے گھر لے جائیں اور کھانا
 کھلائیں۔ آپ کا طریق یہ تھا۔ کہ جب مہمان
 آتے۔ تو آپ

مسجد میں اعلان

فرمادیتے کہ اتنے مہمان آئے۔ دس بیس بیس لوگوں کو

اپنے گھرے جائیگا۔ ایک کہتا یا رسول اللہ مجھے دو مہمان دے دیجئے۔ دوسرا کہتا یا رسول اللہ مجھے تین مہمان دے دیجئے۔ یہی اس وقت کا رنکر خانہ اور میری مہمان خانہ تھا۔ اکثر دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح یعنی بعض مہمانوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مہمان آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون اس مہمان کو اپنے گھر لے جائیگا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے چنانچہ وہ اس مہمان کو ساتھ لیکر گھر پہنچے اور بیوی سے پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ کھانا ہے اُس نے کہا

صرف ایک روٹی

ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ یہ روٹی بچوں کو کھلا دوں اور میں اور تم دونوں فاقہ کریں۔ انہوں نے کہا چلو جہاں ہم فاقہ کریں گے وہاں آج ہمارے بچے بھی فاقہ کریں گے۔ ایک مہمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سپرد فرمایا ہے۔ اور اسے بہر حال کھانا کھلانا ہے۔ بیوی کہنے لگی بہت اچھا۔ بچوں کو میں کسی مہمان کے ساتھ لے دوں گی اور یہ روٹی ہم سے کھلا دیں گے۔ وہ صحابی کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے مگر ایک مشکل ابھی باقی ہے اور وہ کہ میرا مہمان ایک روٹی ہمیں کھائیگا۔ اگر اُسے ایک روٹی دی گئی تو اُسے بستر لگ جائیگا کہ ہم نے اپنی روٹی اُسے دے دی ہے اور شاید اس وجہ سے وہ خود بھی نہ کھائے۔

اس کے انزالہ کی کوئی صورت ہوتی چاہیے۔ بیوی کہنے لگی تم اس کا بھی فکر نہ کرو۔ بچوں کو میں کسی طرح سلا دوں گی اور ہم خود مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کے لئے بیٹھ جائیں گے۔ جب ہم بیٹھ جائیں۔ تو مجھے کہنا کہ روشنی درست نہیں ہے اور بجی کر دو۔ میں بتی کو ادبنا کرنے کے بہانے سے اُسے گل کو ماتھے کی انگلیوں سے اس طرح بکڑوئی کہ وہ بچھ جائیگا۔ تم نے کہا کہ کسی ہمسایہ کے گھر سے روشنی لاؤ۔ اور میں یہ کہوئی۔ کہ ہمسایوں کو اس وقت تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اندھیرے میں ہی روٹی کھا لو۔ اور مہمان بھی قدرتا ہی کہیگا کہ تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں اندھیرے میں ہی روٹی کھا لیتا ہوں۔ اس کے بعد میں اور آپ دونوں اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور دے کا حکم اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا

اور غلی مجھے کے مارے چلے جائیں گے یعنی کھانے کی آواز منہ سے نکالتے جائیں گے مہمان یہ سمجھے کہ ہم اس کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں۔ اور اس طرح ہم اپنا کھانا مہمان کو کھلا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بچوں کو سلا دیا۔ اور جب کھانا کھانے کے لئے سب دسترخوان پر بیٹھے تو اس صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ روشنی مدھم ہے ذرا دئے کی جی تو ادبنا کر دو۔ وہ اٹھی اور اس نے دونوں انگلیوں سے بکڑ کر اس کے گل کو جو کھینچا تو وہ بچھ گیا۔ خادند کہنے لگا۔ اب اندھیرے میں ہم روٹی کس طرح کھائیں۔ جاؤ کسی ہمسایہ سے روشنی لے آؤ۔ بیوی کہنے لگی۔ اس وقت ہمسایوں کو تکلیف ہوگی۔ آپ اندھیرے میں ہی روٹی کھالیں۔ مہمان بھی بول اٹھا کہ روشنی کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اندھیرے میں ہی روٹی کھا لوں گا۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی اُس کے ساتھ بیٹھ گئے اور اندھیرے میں انہوں نے زور زور سے مچاکے مارنے شروع کر دئے۔ مہمان نے سمجھا کہ یہ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں۔ مگر دراصل وہ کھا نہیں رہے تھے۔ جب مہمان کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دسترخوان اٹھایا اور سو گئے

جب صبح وہ صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا۔ رات کو تم نے اپنے مہمان سے کیا کیا۔ وہ ڈرے کہ معلوم نہیں کو ذرا ایسی بات ہو گئی ہو۔ جو

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا موجب

ہوئی ہو۔ یہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے اور فرمایا۔ آج رات تم میاں بیوی نے ایسی حرکت کی ہے جسے دیکھ کر خدا بھی عرش پر ہنس پڑا پھر آپ نے فرمایا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اللہام سے تمہارا سب وقفہ بنا دیا ہے۔ اب دیکھو ہزاروں دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کو فاقہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ غریب پر ہی نہیں بڑے بڑے امراء پر بھی بعض دفعہ یہ حالت آجاتی ہے۔ وہ جنگلوں میں جاتے ہیں۔ تو وہاں انہیں کھانے کے لئے روٹی تک میسر نہیں آتی۔ ایسی صورت میں بادشاہوں پر بھی فاقہ آجاتا ہے۔ دزیروں پر بھی فاقہ

آجاتا ہے۔ کمانڈر اچھیف پر بھی فاقہ آجاتا ہے۔ پھر گھروں میں بعض دفعہ فاقہ کرنا پڑتا ہے۔ عیاش امراء جن کے دسترخوان پر بیسیوں کھانے ہوتے ہیں۔ ان کو مستثنیٰ کرتے ہوئے عام طور پر گھروں میں ایک ہی کھانا تیار ہوتا ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سالن میں نمک زیادہ ہوتا ہے۔ یا مرچیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور انسان کھانا نہیں کھاتا بلکہ فاقہ کر لیتا ہے۔ یا روکھی روٹی کھا لیتا ہے اور سالن استعمال نہیں کرتا۔ بہر حال یہ حالتیں انسان پر گذر جاتی ہیں اور بلا وجہ گذر جاتی ہیں۔ پھر اگر انسان کو خدا تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے کبھی فاقہ کرنا پڑے تو اس میں مشکل یا ناقابل عمل کوئی بات ہے۔ درحقیقت انسان کی طبیعت میں بخل ہوتا ہے۔ اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید اگر میں نے دوسروں کے لئے فاقہ کیا تو مجھے روزانہ ایسا کرنا پڑیگا۔ حالانکہ روزانہ ایسا نہیں کرنا پڑتا۔ بلکہ کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک شخص کا ہمسایہ بھوکا ہے تو وہ اسے روٹی کھلانے کے لئے ایک دن کا فاقہ کر سکتا ہے۔ مگر دوسرے دن اس کے لئے فاقہ کرنا ضروری نہیں۔ دوسرے دن اس کا دوسرا ہمسایہ فاقہ کر سکتا ہے۔ تیسرے دن تیسرا اور چوتھے دن چوتھا۔ پھر اگر محلے میں بیس بچیس اور بھی گھر ہوں اور وہ سب ایک ایک دن کا فاقہ کریں۔ تو مہینہ میں ہر شخص کو

صرف ایک دن فاقہ

کرنا پڑیگا۔ اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں بلکہ روزانہ کوئی شخص دوسرے کی روٹی کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ خود بھی اپنی روزی کے لئے جدوجہد کرتا ہے۔ لیکن اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ کوئی شخص ایسا ہے جسے روزانہ روٹی کی ضرورت ہے۔ تو اس صورت میں بھی کسی ایک شخص کو ہمیشہ فاقہ نہیں کرنا پڑتا۔ بلکہ کسی لوگوں پر تقسیم ہو کر یہ بوجھ بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح ہر شخص ہمسایہ کی مدد کر کے ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ پس غریب یہ نہ سمجھے کہ میں غریب ہوں اور اس وجہ سے اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ

غریب پر بھی ذمہ داریاں ہیں اور امیر پر بھی

ذمہ داریاں ہیں۔ نہ امیر اپنی ذمہ داریوں کو ترک

کر سکتے ہیں نہ غریب اپنی غربت کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کو ترک کر سکتے ہیں۔ حق بجانب سمجھے جاسکتے ہیں۔ جب قوم پر اجتماعی رنگ میں تکلیف کا وقت آئے تو اس وقت ہر شخص کا فرض ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کی مدد کرے۔ امیر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق مدد کرے اور غریب کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے دائرہ کے مطابق مدد کرے۔ غریب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چونکہ غریب ہوں اسلئے مدد نہیں کرتا اگر مدد نہ ملنے کی وجہ سے کسی شخص کی ہلاکت ہو جائے۔ تو اس کی

ذمہ داری غریب پر بھی ہوگی۔ اور امراء پر بھی

ایک امیر شخص جس کے دس نوکر ہوں۔ اگر اس کا کوئی بچہ کوئی میں گر جائے اور سب نوکر اس وقت موجود ہوں تو آقا صرف اس بچے کو کھلانے والے خادم کو سزا نہیں دیکھا بلکہ جس قدر نوکر اس وقت موجود ہوں گے ان سب کو سزا دیگا۔ باغبان نہیں کہہ سکتا کہ میرا کام تو شاخ تراشی اور بیج لگانا اور درختوں کو پانی دینا ہے۔ میرا یہ کام نہیں تھا کہ میں بچہ کی جان بچاتا۔ سائیس یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کام گھوڑے کو دانہ کھلانا اور اسکی رکھوالی کرنا ہے۔ میرا یہ فرض نہیں تھا کہ میں بچہ کی جان بچاتا۔ فراش یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کام تو آپ نے فرش بچھانا اور اسے صاف رکھنا مقرر کیا ہوا ہے۔ میرا فرض یہ کہاں تھا۔ کہ میں بچہ کی بھی جان بچاتا۔ دربان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کام تو آپ نے دربان مقرر کیا ہوا ہے۔ میں نے اگر بچہ کی جان نہیں بچائی تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ بلکہ وہ ساروں سے خفا ہوگا اور سب اس قصور کی سزا پائیں گے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے کسی بندے پر مصیبت آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں امیر تھا اور فلاں غریب۔ بلکہ وہ کہتا ہے۔ جب مصیبت آگئی۔ تو

ہر ایک کا فرض

تھا۔ کہ اس کی مدد کرتا۔ خواہ وہ امیر تھا۔ یا غریب۔ نادار تھا یا زر دار۔ اپنی اپنی نسبت سے اس کی مدد کرنے میں سب کی ذمہ داری برابر ہوگی۔ ہاں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر غریب کسی شخص کی جان بچائیگا تو وہ امیر سے زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ کیونکہ غریب کے پاس کم طاقت تھی اور امیر کے پاس زیادہ طاقت تھی۔ ایک امیر آدمی اگر کسی کو دزدانے

کے پیسے دیتا ہے۔ تو بے شک وہ بھی ثواب کا مستحق ہے۔ مگر ایک غریب جو دو آنے کے پیسے دیتا ہے۔ وہ اس سے زیادہ ثواب کا مستحق ہے۔ کیونکہ اس نے دو آنے کے پیسے بھی دئے اور ایک فاقہ بھی برداشت کیا۔ اپنا بھی اور اپنے بیوی بچوں کا بھی۔ گویا اس نے علاوہ مال کے تین یا چار جانوں کی بھی قربانی کی۔ مگر امیر نے صرف پیسے دئے۔ پس صاحب بات ہے کہ امیر کو کم ثواب ملیگا اور غریب کے زیادہ ثواب ملیگا۔ گو دو سو سے کی جان بچانے میں بظاہر دونوں برابر ہوں گے۔ اسی طرح جو لوگ مالدار ہیں۔ ان کی ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہیں۔ درحقیقت مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور امانت آتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان اس مال کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ یا اس مال کو خرچ نہیں کرتا۔ اگر وہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق خرچ کرتا ہے تو وہ امانت کو عمرگی سے خرچ کرنے والا قرار پاتا ہے۔ اور اگر مناسب مقامات پر خرچ نہیں کرتا۔ تو وہ امانت میں خیانت کرتا اور اللہ تعالیٰ اسے اسلام نے اسی لئے مال جمع کرنے کی اجازت دی ہے کہ انسان اس مال کو ضرورت حقہ پر خرچ کرے۔ اگر وہ خرچ نہیں کرتا۔ تو وہ مال ایسا ہی ناجائز ہو جاتا ہے۔ جیسے بولشوزم والے کہتے ہیں کہ مال کا افراد کے پاس رہنا جائز نہیں۔ اسلام نے اگر مال جمع کر نیسے منع نہیں کیا۔ اور بولشوزم کے اصول کو ناجائز قرار دیا ہے تو اسی لئے کہ وہ کہتا ہے ہمنے یہ ذمہ داری اصرار کے سمر ڈال دی ہے کہ وہ اپنے اموال غریبوں کی ضروریات کیلئے خرچ کریں۔ اگر وہ خرچ نہیں کرتے تو خیانت سے کام لیتے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مورد بنتے ہیں۔ پس تکلیف کے ایام میں امیر اور غریب دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہئیں اور ان فرائض کو ادا کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عائد کئے گئے ہیں۔ اگر امیر اپنے فرائض کو ادا کریں تو وہ یقیناً اس بات کے مستحق دار ہیں کہ اپنے فرض کو عمرگی سے ادا کریں۔ اور غریب کا خیال رکھیں اور غریب کو یہ سمجھ لیا جائیے کہ اگر وہ دوسروں کی مدد کریں گے تو

امیر سے بہت زیادہ ثواب حاصل کریں گے۔ ان تمام امور کا نقطہ مرکزی درحقیقت ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت ہے۔ گو یا اصل سوال یہ ہے کہ ان فرائض کی ادائیگی یا عدم ادائیگی سے ہم اس بات کا ثبوت ہتیا کتے ہیں کہ ہمارا خدا اور بعث بعد الموت پر کس قدر ایمان ہے۔ اگر ہمارا خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو اور ہم یقین رکھتے ہوں کہ مرنے کے بعد ایک ابدی زندگی ہے۔ جس میں ہمارے اعمال کا ہمیں بدلہ ملیگا۔ تو نیکی کے کرتے وقت یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ کام امیر کرے یا غریب۔ صحابہؓ میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ان میں بجائے اسکے کہ آپس میں

امیر اور غریب کی کشمکش
 ہوتی۔ وہ ایک دوسرے سے ثواب میں آنکھ مل جانے کی کوشش کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ جس قدر ثواب حاصل ہو۔ انہیں ہی حاصل ہو۔ ایک دفعہ بعض غریبوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! امیر اور غریب سے دیتے ہیں۔ زکوٰتیں دیتے ہیں۔ صدقہ دیتے ہیں۔ مگر ہم ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف جس طرح ہم غریبوں پر ہتھے ہیں اسی طرح وہ ہتھے ہیں۔ جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ رکھتے ہیں۔ جس طرح ہم جہاد میں شامل ہوتے ہیں اسی طرح وہ ہوتے ہیں۔ گویا جس قدر نیکی کے کام ہم کرتے ہیں۔ وہ تمام کام وہ بھی کرتے ہیں۔ مگر جن نیکی کے کاموں میں وہ حصہ لیتے ہیں ان میں ہم اپنی غربت کی وجہ سے حصہ نہیں لے سکتے۔ یا رسول اللہ! ہمیں بھی کوئی ایسی ترکیب بتائیے جس سے ہم ثواب میں اپنے امیر بھائیوں سے کم نہ رہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ امیر کو ثواب کا کوئی زیادہ موقع نہیں ملتا تھا۔ غریب اپنی غربت میں جو تھوڑا بہت چندہ دیا کرتے تھے خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کا اتنا ہی ثواب تھا جتنا امیر کے بڑے بڑے چندوں کا۔ مگر نیک کاموں میں حصہ لینے کا انہیں اس قدر شوق تھا کہ وہ سمجھتے تھے۔ شاید مقدار میں بھی پورا نہ اترنا ثواب کی کمی کا موجب ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی کی۔ اور فرمایا۔ تم ہر نماز کے بعد

۳۳ دفعہ سبحان اللہ ۳۳ دفعہ الحمد

اور ۳۳ دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ تم ثواب میں امیر کے برابر ہو جاؤ گے اور جنت میں ان سے پہلے داخل ہو گے۔ چنانچہ ہر نماز کے بعد انہوں نے تمحمد تسبیح اور تکبیر کہتی شروع کر دی۔ آخر ہوتے ہوئے امیروں کو بھی پتہ لگ گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسبیح تسبیح اور تکبیر کہنے کا ارشاد فرمایا ہے اور وہ سب نماز کے بعد تسبیح تسبیح اور تکبیر کہنے لگ گئے۔ یہ دیکھ کر غریب اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! ان امراؤ کو روکئے۔ یہ کیوں تسبیح و تکبیر اور تکبیر کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ میں کسی کو نیکی سے نہیں روک سکتا۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو کریں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لئے ثواب حاصل کرنے اور نیکی میں بڑھنے کے رستے کھول رکھے ہیں۔ صحابہؓ میں چونکہ نیکی کے کاموں میں مقابلہ ہوا کرتا تھا اسلئے وہ ترقی کرتے چلے گئے۔ مگر اس زمانہ میں لوگ نیکی کے کاموں میں مقابلہ نہیں کرتے۔ اس زمانہ کی ساری مصیبتوں کی وجہ یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں۔ فلاں اپنا حق کیوں ادا نہیں کرتا۔ یہ فکر نہیں کی جاتی کہ انہوں نے خود دوسروں کے حقوق کو کہا شک ادا کیا ہے۔ اس زمانہ میں لوگوں کی یہ ذہنیت تھی کہ ہم اپنا حق ادا کریں۔ دوسرے شخص کو حق ادا نہیں کرنا تو اس کی ذمہ داری اسی پر ہے۔ مگر مغربی ذہنیت یہ ہے کہ تو اپنا حق لے لینا دیکھو کہ دوسرے کے حق کو تو نے ادا کیا ہے یا نہیں۔ مگر اسلام اس کے بالکل الٹ سبق دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ

دوسرے کا حق دو
 اور اس بات کو نظر انداز کر دو کہ دوسرا تمہارا حق نہیں دیتا ہے یا نہیں۔ جب تک بنی نوع انسان کی ذہنیتوں میں یہ فرق رہیگا اسوقت تک دنیا میں بھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سب لوگ یکساں روپیہ کمائیں۔ لازماً کوئی کم کمائیگا اور کوئی زیادہ کمائیگا۔ کوئی امیر ہو گا اور کوئی غریب ہو گا۔ مگر اس مشکل کا حل یہ نہیں کہ امیروں سے روپیہ چھین کر غریبوں کو دے دیا جائے۔ بلکہ

اصل علاج
 یہ ہے کہ ذہنیتوں میں تبدیلی پیدا کی جائے اور ہر شخص اپنے اپنے فرائض کو پہچانے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ دوسرے نے اس کے حق کو ادا کیا ہے یا نہیں۔ بلکہ یہ دیکھے کہ اس نے دوسرے کے حق کو کہاں تک ادا کیا ہے۔ جس دن یہ ذہنیت پیدا ہوگی اس دن

تمام جھگڑے اور فسادات آپ ہی آپ مٹ جائیں گے۔ اور دنیا امن و آرام کا سس لینے لگ جائے گی۔ پس یہ ایام ہیں جن میں خدا تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا موقع دیا ہے کہ تم اپنے اپنے گناہوں کی معافی کا سامان پیدا کر لو۔ اور ان مصیبت کے دنوں میں صبر کر کے اور قربانیوں میں پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو۔ تاکہ پچھلے دس بیس تیس چالیس یا پچاس سال کے گناہ معاف کر کے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے تختہ کو بالکل صاف کر دے۔ اور آئندہ اس پر نیکیاں ہی نیکیاں لکھنے کا تمہیں موقع دے۔ گندم کی زراعت اور اس کے لئے انتظام یہ سب عارضی چیزیں ہیں۔ ہم اگر ان امور میں حصہ لیتے ہیں تو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے علاوہ جماعت کی دنیوی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی خلفاء کے ذمہ عائد کیا ہوا ہے۔ ورنہ ہماری اصل غرض یہی ہے کہ قلوب میں صفائی پیدا ہو اور میں نے بتایا ہے کہ قلوب میں صفائی اسی طرح پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کرنا شروع کر لیں ہر وقت تیار رہیں۔ یہ خیال نہ رکھیں کہ ہر وقت ہمارے حقوق کو کیوں ادا نہیں کیا۔ جس دن ہم اپنا حق ادا کرنے لگ جائیں گے اور لوگوں کا شکوہ ترک کر دیں گے۔ اس دن ہمارے قلوب کی آپ ہی آپ اصلاح ہو جائیگی۔ دوسروں کا شکوہ کرنا اور یہ دیکھنا کہ انہوں نے اپنے حقوق کو ادا کیا ہے یا نہیں یہ ہر شخص کا کام نہیں۔ یہ ابھی کا کام ہے جس میں خدا اعلان اس غرض کیلئے کھڑا کرتا ہے۔ باقی لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی اپنی فکر کریں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے۔ ع تجھ کو پرانی کیا پڑی اپنی نسیب تو پس اصل نقطہ جس پر تمام امن کی بنیاد ہے یہی ہے کہ لوگ اپنے اپنے فرائض کو ادا کریں اور اس ذہنیت کو بدل ڈالیں کہ دوسروں کی نگرانی کی جائے اور اپنے نفس کی خبر نہ لی جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اپنے فرائض کو ادا کریں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور اپنا وقت بجائے دوسروں پر نہکتے جینی کرنے کے اپنے نفس کی اصلاح میں صرف کریں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ اللہ صمد امین خطبہ ثانی میں فرمایا۔ ایک شخص نے کہا ہے کہ کارکنوں کو جو کوشاں نہیں کی وہ سال بھر کا غلہ خرید

یہ سب عارضی چیزیں ہیں۔ ہم اگر ان امور میں حصہ لیتے ہیں تو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے علاوہ جماعت کی دنیوی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی خلفاء کے ذمہ عائد کیا ہوا ہے۔ ورنہ ہماری اصل غرض یہی ہے کہ قلوب میں صفائی پیدا ہو اور میں نے بتایا ہے کہ قلوب میں صفائی اسی طرح پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کرنا شروع کر لیں ہر وقت تیار رہیں۔ یہ خیال نہ رکھیں کہ ہر وقت ہمارے حقوق کو کیوں ادا نہیں کیا۔ جس دن ہم اپنا حق ادا کرنے لگ جائیں گے اور لوگوں کا شکوہ ترک کر دیں گے۔ اس دن ہمارے قلوب کی آپ ہی آپ اصلاح ہو جائیگی۔ دوسروں کا شکوہ کرنا اور یہ دیکھنا کہ انہوں نے اپنے حقوق کو ادا کیا ہے یا نہیں یہ ہر شخص کا کام نہیں۔ یہ ابھی کا کام ہے جس میں خدا اعلان اس غرض کیلئے کھڑا کرتا ہے۔ باقی لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی اپنی فکر کریں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے۔ ع تجھ کو پرانی کیا پڑی اپنی نسیب تو پس اصل نقطہ جس پر تمام امن کی بنیاد ہے یہی ہے کہ لوگ اپنے اپنے فرائض کو ادا کریں اور اس ذہنیت کو بدل ڈالیں کہ دوسروں کی نگرانی کی جائے اور اپنے نفس کی خبر نہ لی جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اپنے فرائض کو ادا کریں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور اپنا وقت بجائے دوسروں پر نہکتے جینی کرنے کے اپنے نفس کی اصلاح میں صرف کریں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ اللہ صمد امین خطبہ ثانی میں فرمایا۔ ایک شخص نے کہا ہے کہ کارکنوں کو جو کوشاں نہیں کی وہ سال بھر کا غلہ خرید